

عزیزی اہل خانہ،

نیویارک شہر میں، ہم ہر طالب علم کے لیے اونچی توقعات رکھتے ہیں — یہ عمدگی ہے۔ اور ہم ہر ایک کو ان اولوالعظم توقعات کی تکمیل کرنے میں درکار مدد فراہم کرنے کے لیے عہد بستہ ہیں — یہ مساوات ہے۔

ایک اہم طریقہ جس سے اساتذہ کڑی اور موثر تدریس فراہم کرتے ہیں وہ ان کے طلباء کے ذریعے کی جانے والی پیش رفت کے بارے میں پُر معنی اور جدید ترین معلومات کی مدد سے کام کرنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اکثر اسکول طلباء کی نشوونما کی وسط سال میں "اندازے کے لیے جانچ" ("pulse check") کرتے ہیں، اور اس سال ہم یہ طریقہ تمام اسکولوں میں بڑھا رہے ہیں۔

یہ اساتذہ اور اسکول منتظمین کو ہر طالب علم سے اس کی سطح پر ملنے کے لیے معلومات، اور مہتممین اور برو / شہر پیما دفاتر کو معاونتیں اور نگرانی ہر اسکول کے متناسب کرنے کا ادراک فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا اسکول گریڈ 6 میں تمام سال کے دوران ایک نئے کمپیوٹر پر مبنی تشخیص کو استعمال کرتے ہوئے طلباء کی پیش رفت کی متعدد بار تشخیص کرتا ہے۔ ایک مختصر کمپیوٹر پر مبنی تشخیص سے، اساتذہ اس بارے میں گراں قدر معلومات موصول کرتے ہیں کہ طلباء کیا جانتے ہیں تاکہ وہ اپنی تدریس میں طلباء کی سطح کے مطابق ترمیم کرسکیں۔

کچھ طلباء کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ تعلیم میں خلا سے بہتر طور پر نمٹ سکتے ہیں، اور دیگر کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اساتذہ ان طلباء کے لیے تقویٰ مواقع فراہم کرسکتے ہیں جو گریڈ سطح کی صلاحیتوں کے قریب ہیں یا اس سے متجاوز ہیں۔

یہ ایک ثابت شدہ طریق کار ہے اور متعدد طریقوں میں سے ایک ہے جو آپ کے بچے کا استاد ایک پُرتفریح، مسابقت طلب تدریسی ماحول تشکیل دینے کے لیے استعمال کرتا ہے جو ہمارے تمام طلباء کے لیے مساوات اور عمدگی فراہم کرتا ہے۔

برائے مہربانی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اپنے بچے کے استاد سے رابطہ کریں۔

مخلص،

پرنسپل